

بینک الحیب لمیٹڈ

شیڈیول آف چارجز

(اسلامک بینکنگ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

بین الاقوامی بینکاری

A. درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA۔ اوپننگ

سالانہ حجم تقویمی سال کے دوران کاروباری تھد:

a۔ 10 ملین روپے تک

b۔ 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین تک

c۔ 100 ملین سے زیادہ

پہلی سہ ماہی اس کے بعد ہر سہ ماہی کے اختتام پر یا کچھ حصے میں

0.40 فیصد 0.25 فیصد

0.30 فیصد 0.20 فیصد

0.17 فیصد 0.10 فیصد

کم از کم 2500 روپے

نوٹ: مندرجہ بالا چارجز، (کاروباری فوائد/ معاہدوں کے سلسلے میں ہونے والے ایڈجسٹمنٹ جو کہ مجاز عہدے دار سے منظور شدہ ہو)، سے مشروط ہیں۔

AB۔ زائد المیعا د ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفٹری کو منتقل کرنا

II ترامیم:

a۔ اگر رقم اور/ یا مدت ملوث نہ ہو

b۔ اگر رقم اور/ یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

III ایل سی کی منسوخی کے چارجز

IV ریٹائرمنٹ:

1 ایل سی مرابحہ پر بروقت منافع (ذاتی ذریعے سے ایل سی کی سبکدوشی)

2 یوزینس بلز:

وقت ادائیگی پر

1800 روپے (فلیٹ)

1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق

2500 روپے علاوہ سوئفٹ چارجز

کم از کم 100 روپے

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم

از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے۔

فی بل 1250 روپے۔ زائد کمیشن (منسلک اینکوارے کے مطابق) پہلے سے وصول

شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1250 روپے

فی بل 2000 روپے (فلیٹ)

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم

از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے۔

ایل سی/ معاہدہ کے تحت یوزینس بلز کی معیاد ادائیگی میں اضافہ

3 سائنٹ:

4 ایل سی سائنٹ پر پی اے ڈی پر منافع*

(* اس سہولت سے مستفید ہونے والے صارفین سے بنیادی فنڈ سہولیات کی شرح وصول کی جائے گی)

3 ماہ اوسط (KIBOR (ASK) + 3 فیصد سالانہ

V وصولی کے لیے نوڈ/ غیر ملکی دستاویزی بلز:

a۔ تمام انورڈ کلکشن/ اوپن اکاؤنٹ/ ایف او سی کیسز پر بینڈ لنگ چارجز

b۔ بنادائیگی، واپس کیے دستاویزات/ بشمول کوریئر چارجز

c۔ تمام غیر ملکی بلز کی وصولی بشمول معاہدہ ادائیگی/ ریٹائرمنٹ/ اوپن اکاؤنٹ

1700 روپے

فارورڈنگ بینک کی جانب سے یو ایس ڈالر 100 (یا اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کے حساب سے کم از کم

1500 روپے وصول کیے جائیں گے

1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر Va, Vb, Vc پر لاگو ہیں۔)

1500 روپے

500 روپے

0.15% فیصد - کم از کم 1500 روپے علاوہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر/ سوئفٹ چارجز

d سوئفٹ چارجز

VI درآمدات کے مقابل بیٹنگی ادائیگی

a۔ سوئفٹ ٹرانسفر

b۔ ڈیماڈ ڈرافٹس

c۔ سروس چارجز

VII کریڈٹ ریورٹس:

a۔ غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر

b۔ غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر

VIII درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ / رجسٹریشن

a۔ درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ / مستاجرہ کار رجسٹریشن

b۔ درآمدات کے لیے معاہدے کی رجسٹریشن میں ترمیم

i۔ اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

ii۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ شامل ہو

0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2500 روپے

1500 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ درج بالا VIII-a کے مطابق کمیشن

IX واپس ادائیگی کے چارجز (واپس ادا کرنے والے بینک Reimbursing)

(Bank) کو قابل ادا چارجز

X پیغام کی ترسیل

a۔ مکمل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ

b۔ ایل / اسی کے سوئفٹ میں ترمیم

XI ناقص دستاویزات کی بینڈ لنگ

FOB XII کی بنیاد پر درآمدات کیلئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء

XIII درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی) کا اجراء

XIV بینک سے بینک میں ایف آئی منتقلی

XV اوپن اکاؤنٹ پر فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی)

XVI بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XVII دیگر چارجز

B برآمدات

I۔ لیٹر آف کریڈٹ

a۔ ایڈوائزنگ -

b۔ ایڈوائزنگ میں ترمیم

c۔ تصدیق

d۔ برآمداتی ایل / سیز کی منتقلی

e۔ غیر مقامی افراد روپیہ اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو واپس ادائیگی

f۔ برآمدی ایل سی کی سلسلہ

II کلکیشن

a۔ دستاویزی (جس پر بینک کو ایجنسی کا فرق نہیں ملتا)

III ڈیوٹی ڈراہیک کلیم کی بینڈ لنگ

IV پیمنٹ کو سہلے سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہوجانے

کی صورت میں، کلکیشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پر سروس چارجز

V پیشگی ادائیگی پر سروس چارجز

VI فریٹ سبسڈی

VII پی آر سی کے اجراء، جانچ پڑتال، دوبارہ تصحیح اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو

آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پر سروس چارجز - گارمنٹ کی صنعت کو سہارا

VIII برآمدی ڈیولپمنٹ سرچارج

IX ایس پی او (SPO) (اسٹینڈرڈائزڈ پریچر آرڈر)

X ای ای (EE) سرٹیفیکیشن کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای / ای ایف این او سی کا اجراء

XII مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیکس (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XIII محفوظ شدہ کھانے کی برآمدات کے لئے تحقیق و ترقی کی 6 فیصد سپورٹ

XIV لائیو فوڈز کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (TDAP) طے کرتا ہے

XV این لینڈ فریٹ سبسڈی

XVI بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XVII ڈیوٹی ڈراہیک پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلیٹ Annex A کا اجراء

XVIII جب برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زر مبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی

دستاویزات بذریعہ بینک الحیب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زر مبادلہ سے حاصل ہونے

والی آمدنی کے عوض بینڈ لنگ اور سروس چارجز

غیر ملکی بینکوں سے واپس ڈالر 100

اصل بشمول 30 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارج وصول کیے جائیں

گے

اصل

2000 روپے

1000 روپے

95 امریکی ڈالر (بامساوی رقم غیر ملکی کرنسی میں فارورڈنگ بینک سے)

1500 روپے فی سرٹیفکیٹ

125 روپے فی درخواست

750 روپے فلیٹ فی ٹرانزیکشن

1200 روپے فی درخواست

1250 روپے

سیکشن "E" متفرق کے مطابق

2000 روپے علاوہ کوریٹر چارجز (اگر لاگو ہوں)

3000 روپے علاوہ کوریٹر چارجز

1500 روپے علاوہ کوریٹر چارجز (اگر لاگو ہوں)

1800 روپے علاوہ کوریٹر چارجز

کم از کم 1500 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی۔ کیس کے لحاظ سے جو بھی زیادہ ہو

1500 روپے فلیٹ

725 روپے فلیٹ

1500 روپے

1000 روپے فی وصولی

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے یا 1.5 روپیہ فی 1000 روپے (کم از کم 2000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے یا (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) (کم از کم 1500 روپے)

1000 روپے فی کیس

1000 روپے

100 روپے فی بل

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1250 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

- XIX اور ڈیوا ایکسپورٹ بلز پورٹنگ کی بینڈ لنگ اور سروس
- XX ایکسپورٹ ری فنانس درخواستیں / ای۔ ای ایف ایس (ایگزیم بینک) کیلئے بینڈ لنگ چارجز 1250 روپے فی سہ ماہی / درخواست
- XXI ڈیویٹی ڈرائیج کلیمز کی بینڈ لنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل 100 روپے فی شینٹ / فی ٹرانزیکشن
- بینڈ لنگ چارجز (انٹرمیڈیٹ اسکیمز)
- XXII گندم، گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر 1000 روپے فی کیس
- سبسڈی کلیمز کی بینڈ لنگ
- XXIII کلیمیشن دستاویزات کے بارے میں بات چیت کے لئے دیگر بینکوں کے نام 750 روپے
- برآمد کے این او سی کا اجراء / ای ایف ای کی دیگر بینکوں کو منتقلی
- XXIV بی / ایل سے سبکدوش ہونے پر / بی ایل کی گمشدگی پر شپنگ کمپنیوں کو این او سی کا اجراء 1200 روپے فلیٹ
- XXV دوسرے بینک کو برآمد کی کارروائیوں کی منتقلی، جہاں ہماری جانب سے کسی دستاویزات 1500 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز
- کی بینڈ لنگ نہیں کی گئی
- XXVI ایل بی ایف ایف (ایس بی پی) درخواستوں کی بینڈ لنگ 2000 روپے فی کیس
- XXVII ایکسپورٹ ڈاکومنٹ ریٹرن کی عدم ادائیگی پر 1500 روپے
- XXVIII ایکسپورٹ ایڈوانس جیمینٹ کے چارجز، ایسی صورت میں جن میں اسٹیٹ بینک 1000 روپے
- آف پاکستان کی منظوری کے ایک سال کے سے ای فارم کی تصدیق ہو
- XXIX ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد تین سو شدہ ایف آئی
- XXX ڈپازٹس کی ایکسپورٹ / فارن کرنسی نوٹ جمع کرانے کے عوض چارجز
- XXXI ایکسپورٹ پروسیڈر نیلا نیشن سرٹیفکیٹ (ای پی آر سی) کا اجراء 600 روپے
- XXXII ایکسپورٹ کے عوض ایف آئی انسٹرومنٹ بنانا 125 روپے فی درخواست
- XXXIII روپے کی بنیاد پر ڈسکاؤنٹ ایس بی پی لون پراسیڈنگ چارجز 1250 روپے فی سہ ماہی / درخواست
- C۔ وصولی (غیر ملکی کرنسی)

- I بیرونی
- a۔ کلین بلز
- b۔ بنا دادائیگی واپس شدہ چیکس
- c۔ مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی
- d۔ مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی کے واپس شدہ چارجز
- II انورڈ
- کلین کلیمیشن
- یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز
- ریٹرننگ بینک کے اصل چارجز علاوہ یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی
- یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ
- یو ایس ڈالر 6 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ
- یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ اصل چارجز

D۔ ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. فارن دیمانڈ ڈرافٹ FDD

b۔ سوئفٹ / TT

یو ایس ڈالر 20 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم تک بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 35 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم تک بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

c FDD کی منسوخی

d FDD/FTT کی ادائیگی روکنا

کوئی چارجز نہیں

II اندرونی

a۔ ڈی ڈی / ایل ٹی / ایم ٹی

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / پوسٹنگ / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی جب اطلاق ہوں تب وصول کئے جائیں گے۔

E۔ متفرقات:

I خطوط کے چارجز

II پونج / کوریئر / سونفٹ چارجز کی وصولی کی تفصیلات درج ذیل کی جائیگی:

اصل

200 روپے

i۔ اصل

ii۔ جہاں کمپنی کی جانب سے صارف کے اکاؤنٹ سے براہ راست کوریئر چارجز کی کٹوتی کی جائے تو بطور سروس چارجز 150 روپے وصول کئے جائیں گے

پونج
کوریئر

1000 روپے فی پیغام

سونفٹ

اصل بمعہ 500 روپے پراسسنگ فیس

1500 روپے فی کیس

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز پر کریڈٹ رپورٹ

IV کسٹمر کی درخواست پر ایف ایکس ٹرانزیکشنز / ٹریڈ ٹرانزیکشنز / یا دیگر مقصد کیلئے ایس بی پی کی منظوری

حاصل کرنا

یو ایس ڈالر 4 فی ہدایت مع ری میٹنس چارجز

V فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

اندرون ملک بینکاری

A۔ ترسیلات زر:

a۔ بینکرز چیک کا اجراء

500 روپے (تعلیمی اداروں / ہائر ایجوکیشن کمیشن / بورڈز وغیرہ کے نام بینکرز چیک / ڈی

ڈی / ادائیگی کیلئے دیگر متعلقہ انسٹرمنٹس کی کوئی فیس / واجبات نہیں ہے)

بینکرز چیک چارجز میں رعایت حاصل کرنے کے لیے صارفین کو اوسط

ماہانہ 25000 روپے کا ٹیلنس برقرار رکھنا ضروری ہے

b۔ ایم ٹی، ٹی ٹی، ٹی ٹی کا اجراء

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی آئٹم

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں (اندرون اور بیرون شہر)

i۔ ہمارے خطوط کے ذریعے وصولی پر ادائیگی

c. فیکس / ٹی ٹی پر سونفٹ چارجز

d. پونج

e۔ منقلی بذریعہ آئی بی سی اے (IBCA)

f. آن لائن کیش جمع کرنا / رقم نکالنا

600 روپے

600 روپے

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B۔ اندرون ملک تجارت

I اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ

(i) ایل سی کھلنے کا کمیشن

(ii) لوکل ایل سی کے تحت ادا کیے گئے بلز کی ریٹائرمنٹ

II اندرون ملک ناقص ایل سی دستاویزات کی تصحیح (درستگی) کے چارجز

III ایل سیز میں ترمیم

a۔ اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b۔ اگر مدت شامل ہو

c۔ اگر رقم میں اضافہ شامل ہو

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 2000 روپے

ریٹائرمنٹ پر 0.05 فیصد

1500 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن 0.35 فیصد بعد کی سہ ماہی کے لیے

جیسا کہ اوپر (b) میں بیان کیا گیا ہے۔

IV ایل/اسی کی منسوخی کے چارجز:

1500 روپے مع سونفٹ چارجز

V وصولیاں

a۔ دستاویزی (IDBC اور LDBC)

0.4 فیصد کم از کم 900 روپے علاوہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

b۔ کلین (بشمول چیکس)

0.25 فیصد کم از کم 300 روپے، زیادہ سے زیادہ 1100 روپے علاوہ ادائیگی کرنے والے

بینک کے چارجز

c۔ رجسٹریشن/اسٹینڈرڈ پریچیز آرڈر کی (S.P.O) ادائیگی پر انتظامی چارجز

250 روپے

VI بغیر ادائیگی واپس شدہ مقامی بلز

500 روپے

VII متفرق چارجز : درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا I-V)

ذیل زائد چارجز ہوں گے:

a۔ وصول کرنے والے کے بینک چارجز (اگر وصول کرنے والا بینک، بینک الحیب لمیٹڈ

اصل علاوہ 50 روپے

کے علاوہ کوئی دوسرا ہو)

50 روپے

b۔ بذریعہ فون/فیکس انسٹرومنٹس کی معلومات

c۔ انسٹرومنٹ واپس کرنے کے چارجز

200 روپے علاوہ پوسٹج/کوریر چارجز

i۔ دستاویزات کی وصولی کے لیے

50 روپے علاوہ پوسٹج/کوریر چارجز

ii۔ کلین وصولی کے لیے

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

d۔ اسٹوریج کرنے کے چارجز

e۔ کوریر چارجز:

60 روپے

i۔ بینک الحیب کی برانچوں کے لیے

125 روپے

ii۔ دیگر بینکوں کے لیے

C۔ فنانسنگ/ایڈوانسز

I۔ منافع بشمول درج ذیل اضافی چارجز لیے جائیں گے:

۔ منصوبے پر عمل درآمد اور جائزہ فیس

۔ قانونی اور انتظامی فیس

۔ متفرق چارجز (سیکیورٹی اور میٹننس کا جائزہ)

II رہن/ہائپوٹھیکیشن پر فنانس کے لیے

درج ذیل نافذ ہو سکتے ہیں:

a۔ گودام کا کرایہ

b۔ گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم چارجز

c۔ گودام کے معائنے کے چارجز:

i۔ شہری حدود کے اندر

ii۔ شہری حدود کے باہر

d۔ رہن کے تحت تمام اشیاء پر ڈیلیوری آرڈر کا اجراء

صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

پیشگی انتظام کے مطابق

اصل

اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے

قوانین کے مطابق ٹی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے

100 روپے فی ڈیلیوری آرڈر

- e۔ اسٹاک کا معائنہ: (بینک کے ذمہ نہیں ہے)
 i اگر یہ معائنہ بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں
 ii اگر یہ معائنہ بینک کا اسٹاف کرے
 i شہری حدود کے اندر
 ii شہری حدود کے باہر

اصل

1250 روپے
 2500 روپے فی معائنہ (30 سے 45 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ معائنہ)
 نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹرز کی جانب سے گودام پر بھی بھارا چانک
 معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے
 اصل

- f۔ (i) دیگر ضمنی اخراجات، بیمہ کا پرمیئم
 (ii) قانونی چارجز:

۔ اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

375 روپے فی ڈیلیوری

اصل

10,000 روپے فلیٹ فی این اوسی

2500/- روپے فلیٹ فی جائیداد بشمول قانونی/وینڈر فیس

اصل

اصل اسٹیمپ پیپر/چپکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

۔ جائیداد کی دستاویزات کی نظر ثانی
 ۔ دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹیز پر استحقاق کی نوٹنگ
 ۔ بیرونی قانونی معاونت:

g۔ تمام پیچ گڈز پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

III CIB رپورٹ چارجز

IV مزید پروجیکٹس کیلئے اسکلے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی/مساوی چارجز/

سینڈ چارج صارفین/کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء (صارف کی درخواست پر)

V اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی صورت میں

ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VI سکیورٹی آف ایجنسی کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن/ترمیم/سیٹیفیکیشن/ویکیشن

آف چارج اور ڈائریکٹر/چارج سرج/سی سی وغیرہ

VII کنٹرول اینڈ سکیورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے

مطابق

D۔ کارپوریٹ کریڈٹ پروسیجرنگ چارجز

(i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ

50 ملین روپے تک کے قرضے

50 ملین روپے سے زیادہ 100 ملین روپے تک

100 ملین روپے سے زیادہ 250 ملین روپے تک

250 ملین روپے سے زیادہ 500 ملین روپے تک

500 ملین روپے سے زیادہ

(ii) دستاویزات کا چارجز

(iii) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

E۔ کمرشل کریڈٹ پروسیجرنگ چارجز

(i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ

2 ملین روپے تک کے قرضے

2 ملین روپے سے زیادہ 5 ملین روپے تک

5 ملین روپے سے زیادہ 10 ملین روپے تک

10 ملین روپے سے زیادہ 20 ملین روپے تک

20 ملین روپے سے زیادہ 50 ملین روپے تک

50 ملین روپے سے زیادہ 100 ملین روپے تک

100 ملین روپے سے زیادہ

(ii) اضافہ/کمی/ای او ایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) دستاویزات کا چارجز

(iv) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

F۔ چینل فنڈنگ پروسیجرنگ چارجز

(i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ/کمی/ای او ایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

5,000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

اصل

G. اسامی ایڈمیڈیم ایڈپرائز (ایس۔ ایم۔ ای) پروسیجر چارجز

(i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ

10 ملین روپے تک

10 ملین روپے سے زیادہ

(ii) دستاویزات کا چارجز

(iii) معائنے کے چارجز (سیکیورٹی کے سامان کیلئے)

H. زرعی فنانس جات پروسیجر چارجز

(i) تمام نئے/تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم فنانس

1.5 ملین روپے تک کے قرضے

1.5 ملین روپے سے زیادہ 3 ملین روپے تک

3 ملین روپے سے زیادہ

(ii) دستاویزات اور پراسیجر چارجز

(iii) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز

(iv) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں)

(v) سیکیورڈ ٹرانزیکشن

رجسٹری (ایس ٹی آر) میں سیکیورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن،

ٹرینیشن چارجز وغیرہ

I. کمرشل ویکل فنانسنگ

i پروسیجر فیس

ii دستاویزات کے چارجز

iii یونٹس کی قبل از وقت خریداری کے چارجز

iv اضافی تخمینے کے چارجز

v تخمینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ قبضہ

vi چیک واپس ہونے پر چارجز

vii گاڑی کی رجسٹریشن/تفکلی کے چارجز

viii دوبارہ قبضہ کے چارجز

ix گاڑی کا ٹیکس

x قانونی چارجز

J. مرابحہ/مساومہ/اجارہ

(i) کارپوریٹ مرابحہ/مساومہ/اجارہ ڈاکو میٹیشن اور پروسیجر چارجز

(ii) معائنے کے چارجز (سیکیورٹی کے سامان کیلئے)

نوٹ: AAOIFI: معیارات کی تعمیل کرنے کے لیے، یہ چارجز صرف مرابحہ/مساومہ کی سہولت حاصل کرنے والے صارفین/کلیئرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔

K. ضمانتیں

i. ایل آف ایڈنگ / ایئر کنسائنمنٹ ٹولس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ ضمانتیں

ii ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیکٹر کو جاری کردہ ضمانتیں

iii دیگر ضمانتیں

iv برآمدی آمدنی بروڈولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ ضمانتیں

v دیگر ضمانتیں بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیئر سپلائر یا بائزر گریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت

vi ضمانتی خط کے متن میں ترمیم (اگر رقم اور مدت وہی رہے گی)

vii SWIFT ایل جی ایڈوانسنگ چارجز کی وصولی

viii الیکٹرانک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوئفٹ چارجز

نوٹیں:

۔ رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہوں گے۔

۔ ضمانت جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر ضمانت کی میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا

L. کمیشن/منجمنٹ سروسز

i۔ ملک بھر میں کمیشن سولیوشنز

ii۔ بلک سیلرز/ایئر لائنیاں

iii۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام

iv۔ کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ

v۔ دیگر کوئی بھی شریعت پر مبنی سرگرمی

vi۔ الحبیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس)

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

اصل

اصل

2,000 روپے

3,500 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے

اصل

اصل

اصل

اصل

9000 روپے فی ویکل

اصل پر

خریدے جانے والی یونٹس کی قیمت کا 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

750 روپے

اصل پر

اصل پر

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

اصل پر

اصل پر

اصل پر

2000 روپے فلیٹ

'انیکوربی-1' کے مطابق منسلک قابل اطلاق سلیب کے مطابق

'انیکوربی-2' کے مطابق منسلک قابل اطلاق سلیب کے مطابق

500 روپے فلیٹ

'انیکوربی-2' کے مطابق منسلک قابل اطلاق سلیب کے مطابق

تریمی چارجز 1200 روپے

1,000 روپے بشمول ایف ای ڈی

300 روپے

M متفرق چارجز

- 1- چیکس کی ادائیگی روکنا
- 2- بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس کر دیئے جائیں
- 3- اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
- 4- صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کا اجراء
- 5- صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- 6- اُسی دن چیکس کلیئر ہونے کے چارجز
- 7- اُسی دن چیکس کلیئر کرنے پر رقم ہونے کی صورت میں واپس کرنے کے چارجز
- 8- آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز
- 9- ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
- 10- ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
- 11- CDC چارجز
- 12- چیک بک کے چارجز
- 13- اسپیشلائزڈ/کسٹمائزڈ چیک بک
- 14- اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ
- 15- انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ این آئی ایف ٹی
- 16- بیرون شہر، چیک کی واپسی کے چارجز
- 17- ایس ایم ایس الٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

- 700 روپے فی انسٹرکشن
- 750 روپے یا اکاؤنٹ میں 750 سے کم جتنی بھی ہو
- 300 روپے فی انسٹرکشن علاوہ ترسیلات زر چارجز
- 400 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 35 روپے
- فی 6 ماہ 35 روپے اضافی
- 550 روپے فلیٹ
- 750 روپے یا اکاؤنٹ میں 750 سے کم جتنی بھی ہو
- کوئی چارجز نہیں
- 150 روپے فی چیک
- 100 روپے
- اصل
- 25 روپے فی لیف (چیک بک کے معاوضے سے استثنیٰ کیلئے صارف کو اپنا اوسط ماہانہ بیلنس 25000 روپے میں طے کرنا ہوگا)
- اصل
- 375 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 350 روپے فی انسٹرومنٹ
- 750 روپے فی انسٹرومنٹ
- انفرادی اور سول پروپرٹیز شپ اکاؤنٹس کیلئے 225 روپے فی ماہ
- انٹائی اکاؤنٹس کیلئے 400 روپے فی ماہ
- کوئی چارجز نہیں
- 300 روپے
- کوئی چارجز نہیں
- 300 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 220 روپے
- 330 روپے
- 550 روپے

50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 سینٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں ایک ایم ٹی 102 میسج کے ذریعے)

- 18- سی ڈی آر کے اجراء کے چارجز
- 19- سی ڈی آر کی ڈوپلیکیٹ کے چارجز
- 20- سی ڈی آر کی منسوخی کے چارجز
- 21- بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ
- 22- بذریعہ پریزم سسٹم تیسرے فریق کے فنڈز منتقلی کا تصفیہ
- کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور اس سے زیادہ
- پیر تا جمعہ صبح 9:00 سے دوپہر 1:30 بجے
- دوپہر 1:30 سے سہ پہر 3:00 بجے
- سہ پہر 3:00 سے شام 4:00 بجے
- کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر تا جمعہ صبح 9:00 سے شام 4:30 بجے

نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہونگے۔

- 23- ایکسپریس چیک بک (10 صفحات)
- 24- سرٹیفکیٹ آف بیلنس
- 25- آڈیٹر کے لئے بیلنس کا سرٹیفکیٹ
- 26- پرانے ریکارڈز کے حصول کیلئے
- 27- اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان/اسپیشل کلیئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر) کے چیکس کا اجراء
- 28- SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز
- 29- پروسیڈرز ریلائنڈیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر، ایک سال بعد
- 30- ڈوپلیکیٹ پروسیڈرز ریلائنڈیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر

N لاکر کی سہولیات

- a- سالانہ کرایہ (لاکر کا سالانہ کرایہ موجودہ اور نئے صارفین سے مدت کے آغاز پر پیشگی وصول کیا جائے گا)
- b- لاکر بریکنگ/چابی کی تبدیلی کے چارجز
- پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
- 500 روپے
- 700 روپے
- چھوٹے لاکر کے لیے 6000 روپے
- درمیانے لاکر کے لیے 7500 روپے
- بڑے لاکر کے لیے 10000 روپے
- اصل پر

متبادل ترسیل چینل (اے ڈی سی)

A۔ فنڈز منتقل کرنے کی سہولت

انٹربینک فنڈز ٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم / انٹرنیٹ / موبائل بینکنگ

مفت آئی بی ایف ٹی۔ 25,000 روپے تک فی مہینہ / فی اکاؤنٹ۔
25,000 روپے ماہانہ سے زائد اضافی رقم کیلئے / فی اکاؤنٹ، لیکن دین کی رقم کا 0.1 فیصد
یا 200 روپے، جو بھی کم ہو چارج کیا جائے گا۔

B۔ اے ٹی ایم

a۔ اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

b۔ اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز

(i) دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر

(ii) مقامی بینکس کی معلوم کرنے کے چارجز

(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)

(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)

C۔ ویزہ ڈیپٹ کارڈ

a۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ بنیادی

سگنچر کارڈ کیلئے 20000 روپے، پلاٹینیم کارڈ کیلئے 8000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے

4250 روپے، سلور کارڈ کیلئے 3500 روپے

نوٹ: سگنچر اکاؤنٹ کیلئے سگنچر کارڈ پر ماہانہ 1500 روپے چارج کیا جائے گا۔

تیس (30) لاکھ روپے ماہانہ اوسط بینکس برقرار رکھنے والے اکاؤنٹ سے سگنچر کارڈ

چارجز کے ماہانہ 1500 پاکستانی روپے وصول نہیں کیے جائینگے

سگنچر کارڈ کیلئے 20000 روپے، پلاٹینیم کارڈ کیلئے 5500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے

3000 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2500 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد یا 300 روپے جو زیادہ ہو

اصل

اصل

اصل

اصل

300 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم پر 4.50 فیصد

c۔ اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرل

d۔ مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر چارجز

e۔ بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر چارجز

f۔ مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر چارجز

g۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

h۔ بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری چارجز

i۔ ویزا آر بیٹریشن چارجز

j۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای۔ کامرس ٹرانزیکشن

D۔ موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کا دوبارہ اجراء

مفت

E۔ چائنایونین پے

a۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ بنیادی

b۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ ضمنی

c۔ بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرل

d۔ بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری

e۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای۔ کامرس ٹرانزیکشن

f۔ مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

g۔ بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

h۔ مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

i۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

3000 روپے

2000 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد یا 300 روپے جو زیادہ ہو

300 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم پر 4.50 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

F ٹیلیٹی ہلز اور دیگر ادائیگیوں پر چارجز

a ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

25 روپے

i۔ ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر

G پے پاک

a۔ سالانہ/متبادل کی فیس

2500 روپے

اصل

b۔ لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز

اصل

c۔ لوکل ریٹریول درخواست کے چارجز

نوٹ*۔ پے پاک ڈیبٹ کارڈ کے مفت اجراء/سالانہ تجدید کی فیس کے لئے، صارف کا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں۔/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، درج ذیل کے مطابق:

i۔ نئے اکاؤنٹ ہولڈرز، کوئی پی یو سے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں۔/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ جب اکاؤنٹ سی پی یو سے کھلے گا (جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست شروع کی جائے گی تو یہ قابل اطلاق ہوگا)۔

ii۔ موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے کیلنڈر مہینے میں 25,000 ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے (یعنی 30 دن) کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے تو اگلے کیلنڈر مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم / کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست کی جائے گی۔)

iii۔ پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہو۔

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

A آئو فنانسنگ کی سہولت (اپنی کار۔ ڈی ایم)

11000 روپے فلیٹ

a۔ پروسیسنگ فیس نئی/ری کنڈیشن اور استعمال شدہ گاڑیاں

b۔ (پوری/جزوی) پونٹ (پونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ۔ اپنی کار کوئی چارجز نہیں

c۔ پونٹ (پونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ پونٹ (پونٹس) کی فی تاخیر خریداری 1200 روپے

d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی/ واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس

e۔ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو

f۔ گاڑی کے دوبارہ قبضے کی تشخیص کے چارجز اصل

g۔ قانونی نوٹس کے چارجز اصل

h۔ پرسنل حادثاتی انشورنس/ تکافل کوئی چارجز نہیں

i۔ گاڑی کے معائنے/ تشخیص کے چارجز اصل

j۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ ٹرانسفر چارجز/ سیکورٹیز ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) اصل

k۔ وئیر ہاؤس چارجز اصل پر جہاں لاگو ہو

B گورنمنٹ سبڈی اسکیم (GMSS) ہاؤسنگ فنانس کیلئے (میرپاکستان میرا گھر)

- پروسیڈنگ فیس
 - یونٹ (یونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ (پوری/جزوی)
 - تاخیر سے یونٹ (یونٹس) کی خریداری پر قیمت میں اضافہ
 - چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
 - جائیداد کی قیمت کے تخمینے کے چارجز
 - وکیل کی فیس
 - آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
 - دستاویزات/اسٹیٹمنٹ چارجز
 - کوریر چارجز (فارن)
- C. ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیٹیگری II کے تحت رینویو ایبل انرجی سولوشنز کے لیے، فنانسنگ انفرادی افراد کے لیے)

- پروسیڈنگ فیس
 - یونٹ کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی)
 - یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
 - واپس ہو جانے والے چیک کے چارجز
 - جائیداد کے معائنے/تثقیص کے چارجز
 - وکیل کی فیس
 - آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
 - دستاویزات/اسٹیٹمنٹ چارجز
 - کوریر چارجز (فارن)
- D. موٹر سائیکل فنانس کی سہولت

- پراسیڈنگ فیس
- (مکمل/جزوی) یونٹ (یونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
- یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لیے جانے پر چارجز (اندرون و بیرون شہر)
- دوبارہ قبضہ کی گئی گاڑیوں کی تثقیص/معائنے کے چارجز
- مقدمہ بازی/قانونی چارجز
- اضافی یونٹس کی خریداری
- گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر)
- ویئر ہاؤس چارجز
- دستاویزی چارجز

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے عائد کردہ تمام ٹیکسز/ایکسائز ڈیوٹی/ودہولڈنگ ٹیکس/ایف ای ڈی وغیرہ، جہاں قابل اطلاق ہو، صارفین سے عمومی چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کیے جائیں گے۔
- بینک یا عملے کی غلطی کی وجہ سے عائد کردہ چارجز واپس کیے جائیں گے۔
- بینک ہر کیس کی بنیاد پر چارجز سے دستبردار ہو سکتا ہے/چارجز کم کر سکتا ہے جس کا انحصار کاروبار کے حجم پر ہے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 1400 روپے			GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی)
کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے			GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)
3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو			(c) بروکر چارجز
(ہر خرید و فروخت کے لین دین پر)			GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز
زیادہ سے زیادہ	کم از کم	سیکیورٹی ریٹ	
(روپے میں)	(روپے میں)	کمیشن (شرح)	
0.15	0.01	0.10 فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200 سے 399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ
شیئرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ			(e) کسٹومڈیل چارجز
برائے سکوک 0.1000 فیصد سالانہ			
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ			
شیئرز کے لئے 0.10 روپے فی شیئر			(f) نکلوانے کے چارجز
برائے سکوک کے لئے 50 روپے فی یونٹ			نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ			
رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ			
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ			نکلوانے کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.01 روپے فی شیئر			(g) جمع کروانے کے چارجز
برائے سکوک 0.01 روپے فی یونٹ			ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ			
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ			ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.010 فیصد فی شیئر			(h) شیئرز کی منتقلی کے چارجز ان/آؤٹ
(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)			
شیئرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیئر			(i) شیئرز پلج فیس

(j) NCCPL چارجز 0.0025 فیصد فی شیئر
(k) گورنمنٹ ڈیبٹ سکیورٹیز (جی ڈی ایس) (شریعہ کے مطابق) (پرائمری مارکیٹ نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد
نیلامی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔
تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔
* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

500 روپے (تعلیمی اداروں/ہائر ایجوکیشن کمیشن/بورڈز وغیرہ کے نام بینکر چیک/ڈی ڈی/ادائیگی کیلئے دیگر متعلقہ انسٹرومنٹس کی کوئی فیس/واجبات، نہیں ہے)
بینکرز چیک چارجز میں رعایت حاصل کرنے کے لیے صارفین کو اوسط ماہانہ 25000 روپے کا بیننس ہر مقرر رکھنا ضروری ہے
25 روپے فی لیف (چیک بک چارجز میں چھوٹ حاصل کرنے کیلئے، کسٹمرز کو اپنا ماہانہ اوسط بیننس 25000 روپے رکھنا ہوگا۔

ii چیک بک چارجز

iii اسپتلازڈ/اتھارائزڈ چیک بک

iv چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vi مازم بیننس کے چارجز

vii یو بی ڈی بل/موبائل بل کی ادائیگی

viii بینک الحبيب کے کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix انٹرنیٹ بینک فنڈز کی منتقلی بذریعہ اے ٹی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ (صرف پاکستانی روپیہ اکاؤنٹس کیلئے)

x اسی دن کلیئرنگ چیک چارجز

xi اکاؤنٹ پیمنٹس سرٹیفکیٹ

xii این آئی ایف ٹی کے ذریعے انٹرنیٹ چیکس کلیکشن

xiii انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز (بیرونی)

xiv بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xv درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا

(a) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ب) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvi بین الاقوامی ڈاک/کوریر/سوفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریر

سوفٹ

xvii ویلم پیک ڈیلیوری

xviii آر ڈی اے کا کٹاؤ نہ ڈیلیور ہونے کی صورت میں چارجز اور کوریئر کی جانب سے ناکمل پیسہ/صارف کی عدم دستیابی کی صورت چارجز

B ترسیلات زر - غیر ملکی

ایرونی

(a) FDD ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) ایف ٹی ٹی

(c) ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

III اندرونی

(a) DD/TT/MT

(b) فارن ٹریولرز چیک کا اجرا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس/کوریر/ڈاک/فیکس/سوفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاقی ہوتا ہو لئے جائیں گے

C - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

کوئی نہیں۔

1 فیصد کمیشن

مفت

(a) مفت - بینک چارجز لاگو ہوں گے۔

(b) مفت - بینک چارجز لاگو ہوں گے۔

(c) 10 امریکی ڈالر

(d) 6 امریکی ڈالر پس ڈرائی بینک چارجز۔ اصل

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
(ii) مقامی بینکس انکوائری چارجز
(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)
(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)

D۔ ویزہ ڈیٹ کارڈ

a۔ سالانہ/متبادل۔ پرائمری

b۔ سالانہ/متبادل۔ سلیمنٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بینکس انکوائری چارجز
(i) ویزا ثالثی چارجز

(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشنز
E۔ الحیب اسلامک روشن اپنا گھر (ڈی ایم ہاؤس فنانس فیسلٹی)

- (a) پروسسنگ فیس
(b) یونٹس کی جلد خریداری پر قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی)
(c) یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
(d) بغیر ادائیگی/واپس کیے گئے چیکس پر چارجز
(e) جائیداد کی تشخیص/تنقیصی چارجز
(f) وکیل کی تشخیص کی فیس
(g) آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
(h) دستاویزات اور اسٹیٹ ڈیوٹی چارجز
(i) کوریئر چارجز (غیر ملکی)

F۔ الحیب اسلامک روشن اپنی کار (ڈی ایم آؤٹ فنانس فیسلٹی)

- (a) پروسسنگ فیس
(b) یونٹس کی جلد خریداری پر قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی)
(c) یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
(d) بغیر ادائیگی/واپس شدہ چیکس پر چارجز
(e) دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)
(f) گاڑی کی تشخیص/تنقیصی چارجز
(g) دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تنقیصی چارجز
(h) قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز
(i) جلد جزوی ادائیگی
(j) ذاتی حادثاتی بیمہ
(k) گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)
(l) گودام کے چارجز
(m) کوریئر چارجز (غیر ملکی)
(n) تصدیقی چارجز

نوٹ: اسلامک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دی گئی سہولتوں کے علاوہ دیگر سہولتوں پر چارجز اسلامک بینکنگ شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔

G گیٹ وے ٹوا کیوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن	سیکیورٹی ریٹ
(روپے میں)	(روپے میں)	(فیصد میں)	
0.15	0.01	0.10- فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200-399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ

شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

برائے سکوک کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز

پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

شیئرز کیلئے -0.10 روپے فی شیئر .

برائے سکوک کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے

رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10 روپے

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

برائے سکوک کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز کے لیے -0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) گورنمنٹ ڈیبٹ سیکیورٹیز (جی ڈی ایس) (شریعہ کے مطابق) (پرائمری مارکیٹ نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد

نیلامی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے اسلامک بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025
ضمیمہ (انیکٹرز) "اے"

رقم کی حد		فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
سے	تک	
500,001.00	800,000.00	1,200.00
800,001.00	1,000,000.00	1,500.00
1,000,001.00	2,000,000.00	3,000.00
2,000,001.00	3,000,000.00	4,500.00
3,000,001.00	4,000,000.00	6,000.00
4,000,001.00	5,000,000.00	7,500.00
5,000,001.00	6,000,000.00	9,000.00
6,000,001.00	7,000,000.00	10,500.00
7,000,001.00	8,000,000.00	12,000.00
8,000,001.00	9,000,000.00	13,500.00
9,000,001.00	10,000,000.00	15,000.00
10,000,001.00	11,000,000.00	16,500.00
11,000,001.00	12,000,000.00	18,000.00
12,000,001.00	13,000,000.00	19,500.00
13,000,001.00	14,000,000.00	21,000.00
14,000,001.00	15,000,000.00	22,500.00
15,000,001.00	16,000,000.00	24,000.00
16,000,001.00	17,000,000.00	25,500.00
17,000,001.00	18,000,000.00	27,000.00
18,000,001.00	19,000,000.00	28,500.00
19,000,001.00	20,000,000.00	30,000.00
20,000,001.00	21,000,000.00	31,500.00
21,000,001.00	22,000,000.00	33,000.00
22,000,001.00	23,000,000.00	34,500.00
23,000,001.00	24,000,000.00	36,000.00
24,000,001.00	25,000,000.00	37,500.00
25,000,001.00	26,000,000.00	39,000.00
26,000,001.00	27,000,000.00	40,500.00
27,000,001.00	28,000,000.00	42,000.00
28,000,001.00	29,000,000.00	43,500.00
29,000,001.00	30,000,000.00	45,000.00
30,000,001.00	31,000,000.00	46,500.00
31,000,001.00	32,000,000.00	48,000.00
32,000,001.00	33,000,000.00	49,500.00
33,000,001.00	34,000,000.00	51,000.00
34,000,001.00	35,000,000.00	52,500.00
35,000,001.00	36,000,000.00	54,000.00
36,000,001.00	37,000,000.00	55,500.00
37,000,001.00	38,000,000.00	57,000.00
38,000,001.00	39,000,000.00	58,500.00
39,000,001.00	40,000,000.00	60,000.00
40,000,001.00	41,000,000.00	61,500.00
41,000,001.00	42,000,000.00	63,000.00
42,000,001.00	43,000,000.00	64,500.00
43,000,001.00	44,000,000.00	66,000.00
44,000,001.00	45,000,000.00	67,500.00
45,000,001.00	46,000,000.00	69,000.00
46,000,001.00	47,000,000.00	70,500.00
47,000,001.00	48,000,000.00	72,000.00
48,000,001.00	49,000,000.00	73,500.00
49,000,001.00	50,000,000.00	75,000.00
50,000,001.00	51,000,000.00	76,500.00
51,000,001.00	52,000,000.00	78,000.00
52,000,001.00	53,000,000.00	79,500.00
53,000,001.00	54,000,000.00	81,000.00
54,000,001.00	55,000,000.00	82,500.00
55,000,001.00	56,000,000.00	84,000.00
56,000,001.00	57,000,000.00	85,500.00
57,000,001.00	58,000,000.00	87,000.00
58,000,001.00	59,000,000.00	88,500.00

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

ضمیمہ (انیکٹر) "اے"

رقم کی حد		فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
سے	تک	
59,000,001.00	60,000,000.00	90,000.00
60,000,001.00	61,000,000.00	91,500.00
61,000,001.00	62,000,000.00	93,000.00
62,000,001.00	63,000,000.00	94,500.00
63,000,001.00	64,000,000.00	96,000.00
64,000,001.00	65,000,000.00	97,500.00
65,000,001.00	66,000,000.00	99,000.00
66,000,001.00	67,000,000.00	100,500.00
67,000,001.00	68,000,000.00	102,000.00
68,000,001.00	69,000,000.00	103,500.00
69,000,001.00	70,000,000.00	105,000.00
70,000,001.00	71,000,000.00	106,500.00
71,000,001.00	72,000,000.00	108,000.00
72,000,001.00	73,000,000.00	109,500.00
73,000,001.00	74,000,000.00	111,000.00
74,000,001.00	75,000,000.00	112,500.00
75,000,001.00	76,000,000.00	114,000.00
76,000,001.00	77,000,000.00	115,500.00
77,000,001.00	78,000,000.00	117,000.00
78,000,001.00	79,000,000.00	118,500.00
79,000,001.00	80,000,000.00	120,000.00
80,000,001.00	81,000,000.00	121,500.00
81,000,001.00	82,000,000.00	123,000.00
82,000,001.00	83,000,000.00	124,500.00
83,000,001.00	84,000,000.00	126,000.00
84,000,001.00	85,000,000.00	127,500.00
85,000,001.00	86,000,000.00	129,000.00
86,000,001.00	87,000,000.00	130,500.00
87,000,001.00	88,000,000.00	132,000.00
88,000,001.00	89,000,000.00	133,500.00
89,000,001.00	90,000,000.00	135,000.00
90,000,001.00	91,000,000.00	136,500.00
91,000,001.00	92,000,000.00	138,000.00
92,000,001.00	93,000,000.00	139,500.00
93,000,001.00	94,000,000.00	141,000.00
94,000,001.00	95,000,000.00	142,500.00
95,000,001.00	96,000,000.00	144,000.00
96,000,001.00	97,000,000.00	145,500.00
97,000,001.00	98,000,000.00	147,000.00
98,000,001.00	99,000,000.00	148,500.00
99,000,001.00	100,000,000.00	150,000.00
Over 100,000,000		Rs. 1,500 per Rs. 1,000,000 each

نوٹس:

1. اگر قبول کردہ رقم 500,000 روپے سے کم ہے تو کم از کم چارجز 1000 روپے ہوں گے۔
2. مجازاتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد کلائنٹ کے تجارتی کاروبار کی بنیاد پر اُس کے ساتھ بات چیت سے مشروط ہے۔
3. قبول کردہ رقم کی شرح کے حوالے سے صارفین کو قبول کردہ چارجز کے بارے میں ہدایات دی جاسکتی ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔

ضمانت کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

ضمیمہ (انیکٹر) "بی-1"

رقم کی حد	نکتہ	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
Amount Upto	500,000.00	3,000.00
500,001.00	800,000.00	4,800.00
800,001.00	1,000,000.00	6,000.00
1,000,001.00	1,500,000.00	9,000.00
1,500,001.00	2,000,000.00	12,000.00
2,000,001.00	2,500,000.00	15,000.00
2,500,001.00	3,000,000.00	18,000.00
3,000,001.00	3,500,000.00	21,000.00
3,500,001.00	4,000,000.00	24,000.00
4,000,001.00	4,500,000.00	27,000.00
4,500,001.00	5,000,000.00	30,000.00
5,000,001.00	5,500,000.00	33,000.00
5,500,001.00	6,000,000.00	36,000.00
6,000,001.00	6,500,000.00	39,000.00
6,500,001.00	7,000,000.00	42,000.00
7,000,001.00	7,500,000.00	45,000.00
7,500,001.00	8,000,000.00	48,000.00
8,000,001.00	8,500,000.00	51,000.00
8,500,001.00	9,000,000.00	54,000.00
9,000,001.00	9,500,000.00	57,000.00
9,500,001.00	10,000,000.00	60,000.00
10,000,001.00	12,500,000.00	75,000.00
12,500,001.00	15,000,000.00	90,000.00
15,000,001.00	17,500,000.00	105,000.00
17,500,001.00	20,000,000.00	120,000.00
20,000,001.00	22,500,000.00	135,000.00
22,500,001.00	25,000,000.00	150,000.00
25,000,001.00	27,500,000.00	165,000.00
27,500,001.00	30,000,000.00	180,000.00
30,000,001.00	32,500,000.00	195,000.00
32,500,001.00	35,000,000.00	210,000.00
35,000,001.00	37,500,000.00	225,000.00
37,500,001.00	40,000,000.00	240,000.00
40,000,001.00	42,500,000.00	255,000.00
42,500,001.00	45,000,000.00	270,000.00
45,000,001.00	47,500,000.00	285,000.00
47,500,001.00	50,000,000.00	300,000.00
50,000,001.00	52,500,000.00	315,000.00
52,500,001.00	55,000,000.00	330,000.00
55,000,001.00	57,500,000.00	345,000.00
57,500,001.00	60,000,000.00	360,000.00
60,000,001.00	62,500,000.00	375,000.00
62,500,001.00	65,000,000.00	390,000.00
65,000,001.00	67,500,000.00	405,000.00
67,500,001.00	70,000,000.00	420,000.00
70,000,001.00	72,500,000.00	435,000.00
72,500,001.00	75,000,000.00	450,000.00
75,000,001.00	77,500,000.00	465,000.00
77,500,001.00	80,000,000.00	480,000.00
80,000,001.00	82,500,000.00	495,000.00
82,500,001.00	85,000,000.00	510,000.00
85,000,001.00	87,500,000.00	525,000.00
87,500,001.00	90,000,000.00	540,000.00
90,000,001.00	92,500,000.00	555,000.00
92,500,001.00	95,000,000.00	570,000.00
95,000,001.00	97,500,000.00	585,000.00
97,500,001.00	100,000,000.00	600,000.00

نوٹس:

- 100 ملین روپے سے زائد تمام ضمانتی رقوم پر ہر 1 ملین روپے کے لیے اضافی سروس چارجز 6000 روپے لاگو ہوں گے (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ)
- صارف کے لئے مندرجہ بالا چارجز پر رعایت، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہے۔
- صارفین کو ضمانت کے چارجز ضمانتی رقوم کی شرح کے اعتبار سے بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔
- دی گئی ضمانت پر کمیشن صرف اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔

ضمانت کردہ چارجز کا شیڈیول (اسلامک بینکنگ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

ضمیمہ (اینکڑ) "بی-2"

فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ	نکتہ	رقم کی حد
2,250.00	500,000.00	Amount Upto
3,600.00	800,000.00	500,001.00
4,500.00	1,000,000.00	800,001.00
6,750.00	1,500,000.00	1,000,001.00
9,000.00	2,000,000.00	1,500,001.00
11,250.00	2,500,000.00	2,000,001.00
13,500.00	3,000,000.00	2,500,001.00
15,750.00	3,500,000.00	3,000,001.00
18,000.00	4,000,000.00	3,500,001.00
20,250.00	4,500,000.00	4,000,001.00
22,500.00	5,000,000.00	4,500,001.00
24,750.00	5,500,000.00	5,000,001.00
27,000.00	6,000,000.00	5,500,001.00
29,250.00	6,500,000.00	6,000,001.00
31,500.00	7,000,000.00	6,500,001.00
33,750.00	7,500,000.00	7,000,001.00
36,000.00	8,000,000.00	7,500,001.00
38,250.00	8,500,000.00	8,000,001.00
40,500.00	9,000,000.00	8,500,001.00
42,750.00	9,500,000.00	9,000,001.00
45,000.00	10,000,000.00	9,500,001.00
56,250.00	12,500,000.00	10,000,001.00
67,500.00	15,000,000.00	12,500,001.00
78,750.00	17,500,000.00	15,000,001.00
90,000.00	20,000,000.00	17,500,001.00
101,250.00	22,500,000.00	20,000,001.00
112,500.00	25,000,000.00	22,500,001.00
123,750.00	27,500,000.00	25,000,001.00
135,000.00	30,000,000.00	27,500,001.00
146,250.00	32,500,000.00	30,000,001.00
157,500.00	35,000,000.00	32,500,001.00
168,750.00	37,500,000.00	35,000,001.00
180,000.00	40,000,000.00	37,500,001.00
191,250.00	42,500,000.00	40,000,001.00
202,500.00	45,000,000.00	42,500,001.00
213,750.00	47,500,000.00	45,000,001.00
225,000.00	50,000,000.00	47,500,001.00
236,250.00	52,500,000.00	50,000,001.00
247,500.00	55,000,000.00	52,500,001.00
258,750.00	57,500,000.00	55,000,001.00
270,000.00	60,000,000.00	57,500,001.00
281,250.00	62,500,000.00	60,000,001.00
292,500.00	65,000,000.00	62,500,001.00
303,750.00	67,500,000.00	65,000,001.00
315,000.00	70,000,000.00	67,500,001.00
326,250.00	72,500,000.00	70,000,001.00
337,500.00	75,000,000.00	72,500,001.00
348,750.00	77,500,000.00	75,000,001.00
360,000.00	80,000,000.00	77,500,001.00
371,250.00	82,500,000.00	80,000,001.00
382,500.00	85,000,000.00	82,500,001.00
393,750.00	87,500,000.00	85,000,001.00
405,000.00	90,000,000.00	87,500,001.00
416,250.00	92,500,000.00	90,000,001.00
427,500.00	95,000,000.00	92,500,001.00
438,750.00	97,500,000.00	95,000,001.00
450,000.00	100,000,000.00	97,500,001.00

- نوٹس :
- 100.1 ملین روپے سے زائد تمام ضمانتی رقوم پر ہر 1 ملین روپے کے لیے اضافی چارجز 4000 روپے لاگو ہوں گے (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ)
 2. صارف کے لئے مندرجہ بالا چارجز پر رعایت، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہے۔
 3. صارفین کو ضمانت کے چارجز ضمانتی رقوم کی شرح کے اعتبار سے بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔
 4. دی گئی ضمانت پر کمیشن صرف اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔